

## Juz 1st

### ROOT WORDS OF SURAH AL-BAQARAH (74-82)

فَسَتْ	كَالْحِجَارَةِ	أَشَدُّ	فَسْوَةٌ	يَتَفَجَّرُ	يَشَقُّقُ
ق س و	ح ج ر	ش د د	ق س و	ف ج ر	ش ق ق
سخت ہو گئے	مانند پتھر	زیادہ	سخت	پھوٹ نکلتے ہیں،	پھٹ جاتے ہیں

الْمَاءِ	يَهْبِطُ	خَشِيَّةٌ	أَفْتَطْمُونُ	يُحَرِّفُونَهُ	لَقُوا
م و ہ	ہ ب ط	خ ش ي	ط م ع	ح ر ف	ل ق ي
پانی	گر پڑتے ہیں	ڈرسے	کیا تم امید رکھتے ہو	وہ بدل ڈالتا ہے	ملتے ہیں

خَالَ	أَتَحَدِّثُونَهُمْ	لِيَحَاجُّوكُمْ	يُسِرُّونَ	يُعْلِنُونَ	أُمِّيُونَ
خ ل و	ح د ث	ح ج ج	س ر ر	ع ل ن	أ م م
علیحدہ ہوتے ہیں	تم کیا ان کو بتا دیتے ہو	تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے	وہ چھپاتے ہیں	وہ ظاہر کرتے ہیں	ان پڑھتے ہیں

أَمَانِيٍّ	يَظُنُّونَ	بِأَيْدِيهِمْ	لِيَشْتَرُوا	يَكْسِبُونَ	تَمَسَّنَا
م ن ي	ظ ن ن	ي د ي	ش ر ي	ك س ب	م س س
جھوٹی آرزوؤں کے	وہ گمان کرتے ہیں	اپنے ہاتھوں سے	تاکہ وہ حاصل کریں۔	وہ کماتے ہیں	چھوئے گی ہمیں

مَعْدُودَةٌ	يُخْلِيفَ	سَيِّئَةً	أَحَاطَتْ	خَطِيئَتُهُ	أَصْحَابُ
ع د د	خ ل ف	س و أ	ح و ط	خ ط أ	ص ح ب
گنتی کے	وہ خلاف کرے گا	برے کام	گھیر لیا / احاطہ کر لیا	اس کے گناہ نے	رہنے والے / ساتھی